



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release

For immediate Release

December 30, 2016

SECP will only encourage listing of quality companies on stock exchange

ISLAMABAD, December 30: The SECP will encourage listing of a company's securities on an exchange through initial public offering (IPO), which means the first allocation of newly issued shares and debt, to the public. It is so as companies with good track record, credible sponsors, experienced management and operating in a strong industry can easily tap the capital markets for generating the resources required for growth. Generally, such companies are welcomed by capital markets and maintain investor's confidence.

For the last couple of years, the SECP has assumed a more vigilant role and has also forced PSX to play its due role in promoting quality listings. To promote ease of doing business, the SECP has also expedited its approval processing time and as a matter of fact, the SECP approved the last three IPO applications within five working days after receipt of complete applications.

Being the front line regulator, PSX has the prime responsibility to promote quality listing considering the interest of all the stakeholders including general public and the issuers. In order to strengthen its prospectus approval process, the PSX has recently constituted a listing committee comprising of independent market participants, professionals with business background and members of its management. After its constitution, the said PSX committee has approved first prospectus for listing of a company, which is one of those companies which participated in the interactive session organized jointly by PSX and the SECP.

It is imperative to encourage new quality listings to complement a sustainable growth being registered by our capital markets and to maintain investors' confidence.

Public offering process starts with the decision of the sponsors of the company to offer securities to the general public. In this connection, Pakistan Stock Exchange (PSX) and the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) jointly held various interactive sessions in different cities with the selected group of sponsors having high potential for listing. These sessions provided a unique opportunity to sponsors to interact with different segments of capital market service providers, including PSX, regulator, brokerage firms, sponsors of recently listed companies etc., and to explain the pathways to a successful listing.

In past, quality aspect with regard to listings has never been focused upon rather reliance has been placed on enhanced disclosures and eligibility requirements.

The same approach of “Buyer Beware” still could have been followed, however contrary to this, the Commission has constituted an in-house cross functional IPO Committee to ensure quality listing and improve decision making process in respect of listing applications.

The said committee, comprising head of different functions of the SECP is responsible to examine listing applications in details and furnish recommendations to the SECP for its consideration. Since the constitution of this committee, three IPOs applications and one sukuk application have been received by the SECP, which were thoroughly examined to ensure their suitability for general public.

One of three IPO applications, not being considered suitable for the general public was allowed by the SECP to be traded only among the sophisticated investors by placing trading lot size restriction of 100,000 shares. Out of other two IPO applications, one has received overwhelming response from institutional investors as well as general public and its price in the secondary market has increased almost 50% as compared to its initial offered price.

During the week, another IPO has also been approved by the SECP considering the recommendation of committee which is going to be offered to the public in next couple of weeks. This IPO committee concept has been implemented by the regulator to ensure quality listings. In addition to said IPOs, the SECP has also approved a sukuk application for listing.

سٹاک ایکسچینج پر اندراج کے لئے ایس ای سی پی صرف معیاری کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔

اسلام آباد، ۱۰ ستمبر: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ معیاری کمپنیوں کو سٹاک ایکسچینج پر لانے کی حوصلہ افزائی کرے گا جو ”ابتدائی عوامی پیشکش“ کے ذریعے اپنے نئے حصص اور قرض کے تمسکات سیکیورٹیز عوام الناس کو الاٹ کر سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ایسی کمپنیاں ہی سٹاک ایکسچینج کے ساتھ مندرج ہوں جو اچھا ریکارڈ، بہتر ساکھ، تجربہ کار انتظامیہ اور مستحکم صنعت میں بڑھوتری کی صلاحیت کی حامل اور بازار سرمایہ سے اپنی نمو کے لئے ضروری وسائل حاصل کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں۔

گزشتہ دو ایک سالوں سے، ایس ای سی پی کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنے کردار کو زیادہ فعال بنائے اس لئے اس نے پی ایس ایکس سے کہا ہے کہ وہ صرف معیاری کمپنیوں کی لسٹنگ کرے۔ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے ایس ای سی پی نے کمپنیوں کی لسٹنگ کی جلد سے جلد منظوری دینے کا انتظام کیا ہے۔ حال ہی میں ایسی تین معیاری کمپنیوں کا درخواست موصول ہونے کے پانچ دن کے اندر سٹاک ایکسچینج کے ساتھ اندراج کر لیا گیا۔

تمام سٹیک ہولڈرز بشمول عوام الناس اور جاری کنندگان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اول ریگولیٹر کی حیثیت سے سٹاک ایکسچینج کے ساتھ معیاری لسٹنگ کا فروغ پی ایس ایکس کی ذمہ داری ہے۔ اسی کارہائے منصبی کا احساس کرتے ہوئے اور پراسپیکٹس کی منظوری کا طریقہ کار بہتر بنانے کے لئے، پی ایس ایکس نے حال ہی میں مارکیٹ کے غیر جانبدار شرکاء، اچھے پس منظر کے حامل کاروباری افراد اور اپنی انتظامیہ کے اراکین پر مشتمل ایک لسٹنگ کمیٹی تشکیل دی۔

اپنی تشکیل کے بعد اس کمیٹی نے حال ہی میں کمپنیوں کی لسٹنگ کے لئے پہلے پراسپیکٹس کی منظوری دی ہے۔ مذکورہ کمپنی ان متعدد کمپنیوں میں سے ایک ہے جس نے حال ہی میں اس ضمن میں پی ایس ایکس اور ایس ای سی پی کی جانب سے منعقدہ تفصیلی مباحثوں میں شرکت کی تھی۔

پائیدار ترقی اور ہمارے بازار سرمایہ پر سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لئے نئی معیاری لسٹنگز کا بازار سرمایہ کے ساتھ رجسٹر ہونا زحد ضروری ہے۔ عوامی پیشکش کا عمل کمپنی کے سرپرستوں کی جانب سے عوام الناس کو سیوریٹیز کی پیشکش سے شروع ہوتا ہے۔ اس ضمن میں پی ایس ایکس اور ایس ای سی پی نے لسٹنگ کے لئے اعلیٰ ترین صلاحیت کی حامل کمپنیوں کے سرپرستوں کے ساتھ مختلف شہروں میں متعدد مشاورتی سیشن منعقد کئے۔ ان سیشنز کے ذریعے ان سرپرستوں کو بازار سرمایہ کی خدمات فراہم کرنے والے مختلف شعبوں بشمول پی ایس ایکس، ریگولیٹر، بروکر تفرموں، حال ہی میں پی ایس ایکس کے ساتھ لسٹنگ کرانے والی کمپنیوں کے سرپرستوں وغیرہ کے ساتھ بات چیت کرنے اور کامیابی سے اپنی سیوریٹیز کی پیشکش کرنے کے طریقوں کے بارے میں جاننے کا موقع میسر آیا۔

ماضی میں لسٹنگ کے حوالے سے معیار پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ سارا زور زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے اور اہلیت کے تقاضے پورے کرنے پر رکھا جاتا رہا ہے۔ امکان تھا کہ خریداروں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کے ساتھ اسی طریقہ کار کی پیروی کی جاتی تاہم اس کے برعکس اس بار ایس ای سی پی نے آئی پی او کمیٹی تشکیل دی تاکہ معیاری لسٹنگ اور لسٹنگ کے حوالے سے درخواستوں کی مد میں فیصلہ سازی کا بہتر طریقہ کار اختیار کیا جاسکے۔

ایس ای سی پی کی مذکورہ کمیٹی لسٹنگ کی درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات غور و خوض کے لئے ایس ای سی پی کو بھیجتی ہے۔ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد سے اب ایس ای سی پی کو ابتدائی عوامی پیشکشوں کی تین اور سکوک کے اجراء کی ایک درخواست موصول ہوئی، جنک کی عوام الناس کے لئے موزونیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

تین میں سے ایک درخواست برائے ابتدائی عوامی پیشکش عوام الناس کے لئے غیر موزوں قرار دی گئی تاہم اسے بڑے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں خیال کیا گیا اور ایک لاکھ حصص کی حد عائد کرتے ہوئے اس کی سٹاک ایکسچینج پر تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ دیگر دو درخواستوں میں سے ایک درخواست کو ادارہ جاتی اور عمومی سرمایہ کاروں سے زبردست پذیرائی ملی ہے اور اس کی ابتدائی پیشکش قیمت کے مقابلے میں ثانوی مارکیٹ میں اس کی قیمت میں پچاس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے۔

کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس ای سی پی نے اسی ہفتے کے دوران ایک اور ابتدائی عوامی پیشکش کی منظوری دی ہے جو آئندہ چند ہفتوں کے دوران عوام کو خریداری کے لئے پیش کر دی جائے گی۔ ابتدائی عوامی پیشکشوں کی مد میں کمیٹی کا یہ نظام معیاری لسٹنگ اور بازار سرمایہ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لئے نافذ کیا گیا ہے۔ ان آئی پی او کے ساتھ ایس ای سی پی نے سکوک کے اجراء کی ایک درخواست کی بھی منظوری دی ہے۔